

ARABIC VERB CONJUGATOR

مَاتَ
يَمُوتُ

Die

VERBAL NOUN (MASDAR)

مَوْتًا

موت / مرنا

Root: م و ت

PAST	مَاتَ وہ مرا	PRESENT	يَمُوتُ وہ مرتا ہے	MASDAR	مَوْتًا موت / مرنا	ISM FA'IL	مَائِتٌ مرنے والا	ISM MAFOOL	يَمِيْتٌ جان لینے والا
------	-----------------	---------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------	----------------------	------------	---------------------------

PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	الضمير	الترجمة
هُوَ	مَاتَ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد مرا
هُمَا	مَاتَا	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد مرے
هُمْ	مَاتُوا	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد مرے
هِيَ	مَاتَتْ	وہ (ایک عورت)	وہ ایک عورت مری
هُمَا	مَاتَتَا	وہ (دو عورتیں)	وہ دو عورتیں مریں
هُنَّ	مَاتْنَ	وہ (سب عورتیں)	وہ سب عورتیں مریں
أَنْتَ	مِتَّ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد مرے
أَنْتُمَا	مِتْتُمَا	تم (دو مرد / عورتیں)	تم دونوں مرے
أَنْتُمْ	مِتْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مرد مرے
أَنْتِ	مِتْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت مری
أَنْتُمَا	مِتْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتیں مریں
أَنْتُنَّ	مِتْنَّ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتیں مریں
أَنَا	مِتُّ	میں	میں مرا مری
نَحْنُ	مِتْنَا	ہم	ہم مرے

PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	الضمير	الترجمة
هُوَ	يَمُوتُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد مرتا ہے
هُمَا	يَمُوتَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد مرتے ہیں
هُمْ	يَمُوتُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد مرتے ہیں

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت مرتی ہے	وہ (ایک عورت)	تَمُوتُ	هِيَ
وہ دو عورتیں مرتی ہیں	وہ (دو عورتیں)	تَمُوتَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں مرتی ہیں	وہ (سب عورتیں)	يَمْتَنَ	هُنَّ
تم ایک مرد مرتے ہو	تم (ایک مرد)	تَمُوتُ	أَنْتَ
تم دونوں مرتے ہو	تم (دو مرد / عورتیں)	تَمُوتَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد مرتے ہو	تم (سب مرد)	تَمُوتُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت مرتی ہو	تم (ایک عورت)	تَمُوتِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں مرتی ہو	تم (دو عورتیں)	تَمُوتَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں مرتی ہو	تم (سب عورتیں)	يَمْتَنَ	أَنْتِنَّ
میں مرتا / مرتی ہوں	میں	أَمُوتُ	أَنَا
ہم مرتے ہیں	ہم	نَمُوتُ	نَحْنُ

IMPERATIVE

الأمر والنهي

POSITIVE		الأمر	NEGATIVE		النهي
الضمير	الفعل	ترجمہ	الضمير	الفعل	ترجمہ
أَنْتَ	مُتْ	تم مرو (مذکر واحد)	أَنْتَ	لَا تُمُتْ	تم مت مرو (مذکر واحد)
أَنْتُمَا	مُوتَا	تم دونوں مرو	أَنْتُمَا	لَا تَمُوتَا	تم دونوں مت مرو
أَنْتُمْ	مُوتُوا	تم سب مرو (مذکر جمع)	أَنْتُمْ	لَا تَمُوتُوا	تم سب مت مرو (مذکر جمع)
أَنْتِ	مُوتِي	تم مرو (مؤنث واحد)	أَنْتِ	لَا تَمُوتِي	تم مت مرو (مؤنث واحد)
أَنْتُمَا	مُوتَا	تم دونوں مرو (مؤنث)	أَنْتُمَا	لَا تَمُوتَا	تم دونوں مت مرو (مؤنث)
أَنْتِنَّ	مُتْنَ	تم سب مرو (مؤنث جمع)	أَنْتِنَّ	لَا يَمْتَنَ	تم سب مت مرو (مؤنث جمع)

الجدول الإسنادي — الماضي

RELATIONAL MAPPING — PAST

هو	وہ (ایک مرد)
نِي	مَاتِنِي اس نے مجھے مرا
نَا	مَاتَنَا اس نے ہمیں مرا
كَ	مَاتَكَ اس نے تمہیں (ایک مرد) مرا
كُمَا	مَاتَكُمَا اس نے تم دونوں کو مرا
كُم	مَاتَكُم اس نے تم سب (مردوں) کو مرا
كَ	مَاتَكَ اس نے تمہیں (ایک عورت) مرا
كُنَّ	مَاتَكُنَّ اس نے تم سب (عورتوں) کو مرا
هُ	مَاتَهُ اس نے اسے (ایک مرد) مرا
هُمَا	مَاتَهُمَا اس نے ان دونوں کو مرا
هُمْ	مَاتَهُمْ اس نے ان سب (مردوں) کو مرا
هَا	مَاتَهَا اس نے اسے (ایک عورت) مرا
هُمَا	مَاتَهُمَا اس نے ان دونوں عورتوں کو مرا
هِنَّ	مَاتَهُنَّ اس نے ان سب (عورتوں) کو مرا

هُمَا (مذكر)	وہ (دو مرد)
نِي	مَاتَانِي ان دو مردوں نے مجھے مرا
نَا	مَاتَانَا ان دو مردوں نے ہمیں مرا
كَ	مَاتَاكَ ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) مرا
كُمَا	مَاتَاكُمَا ان دو مردوں نے تم دونوں کو مرا
كُم	مَاتَاكُم ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو مرا
كَ	مَاتَاكَ ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) مرا
كُنَّ	مَاتَاكُنَّ ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو مرا
هُ	مَاتَاهُ ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) مرا
هُمَا	مَاتَاهُمَا ان دو مردوں نے ان دونوں کو مرا
هُمْ	مَاتَاهُمْ ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو مرا
هَا	مَاتَاهَا ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) مرا
هِنَّ	مَاتَاهُنَّ ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو مرا

م	وہ (سب مرد)
نِیْ	مَاتُوْنِیْ ان سب مردوں نے مجھے مرا
نَا	مَاتُوْنَا ان سب مردوں نے ہمیں مرا
ک	مَاتُوْكَ ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) مرا
کُمْ	مَاتُوْکُمْ ان سب مردوں نے تم دونوں کو مرا
کِ	مَاتُوْکِ ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) مرا
کُنَّ	مَاتُوْکُنَّ ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو مرا
ہُ	مَاتُوْهُ ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) مرا
هُمَا	مَاتُوْهُمَا ان سب مردوں نے ان دونوں کو مرا
هُمْ	مَاتُوْهُمْ ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو مرا
هَا	مَاتُوْهَا ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) مرا
هِنَّ	مَاتُوْهِنَّ ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو مرا

ہِیْ	وہ (ایک عورت)
نِیْ	مَاتَتْنِیْ اس ایک عورت نے مجھے مرا
نَا	مَاتَتْنَا اس ایک عورت نے ہمیں مرا
ک	مَاتَتْکِ اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) مرا
کُمْ	مَاتَتْکُمْ اس ایک عورت نے تم دونوں کو مرا
کِ	مَاتَتْکِ اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) مرا
کُنَّ	مَاتَتْکُنَّ اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو مرا
ہُ	مَاتَتْهُ اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) مرا
هُمَا	مَاتَتْهُمَا اس ایک عورت نے ان دونوں کو مرا
هُمْ	مَاتَتْهُمْ اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو مرا
هَا	مَاتَتْهَا اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) مرا
هِنَّ	مَاتَتْهِنَّ اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو مرا

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	مَاتَانِی	ان دو عورتوں نے مجھے مرا
نَا	مَاتَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں مرا
ک	مَاتَانَاکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) مرا
کَا	مَاتَانَاکَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو مرا
کُم	مَاتَانَاکُم	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو مرا
کِ	مَاتَانَاکِ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) مرا
کُنَّ	مَاتَانَاکُنَّ	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو مرا
ہ	مَاتَانَاهُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) مرا
ہمَا	مَاتَانَاهُمَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو مرا
ہُمْ	مَاتَانَاهُمْ	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو مرا
ہَا	مَاتَانَاهَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) مرا
ہُنَّ	مَاتَانَاهُنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو مرا

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	مَاتَنِی	ان سب عورتوں نے مجھے مرا
نَا	مَاتَنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں مرا
ک	مَاتَنَاکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) مرا
کَا	مَاتَنَاکَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو مرا
کُم	مَاتَنَاکُم	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو مرا
کِ	مَاتَنَاکِ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) مرا
کُنَّ	مَاتَنَاکُنَّ	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو مرا
ہ	مَاتَنَاهُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) مرا
ہمَا	مَاتَنَاهُمَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو مرا
ہُمْ	مَاتَنَاهُمْ	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو مرا
ہَا	مَاتَنَاهَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) مرا
ہُنَّ	مَاتَنَاهُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو مرا

تم (ایک مرد)	انت	تم دونوں (مرد/عورت)	انتما
تم (ایک مرد) نے مجھے مرا	متنی	تم دونوں نے مجھے مرا	متمانی
تم (ایک مرد) نے ہمیں مرا	متنا	تم دونوں نے ہمیں مرا	متمانا
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) مرا	متہ	تم دونوں نے اسے (ایک مرد) مرا	متماہ
تم (ایک مرد) نے ان دونوں کو مرا	متہما	تم دونوں نے ان دونوں کو مرا	متماہما
تم (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو مرا	متہم	تم دونوں نے ان سب (مردوں) کو مرا	متماہم
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) مرا	متہا	تم دونوں نے اسے (ایک عورت) مرا	متماہا
تم (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو مرا	متہن	تم دونوں نے ان سب (عورتوں) کو مرا	متماہن

تم سب (مرد)	انتہم	تم (ایک عورت)	انت
تم سب (مردوں) نے مجھے مرا	متموننی	تم (ایک عورت) نے مجھے مرا	متنی
تم سب (مردوں) نے ہمیں مرا	متموننا	تم (ایک عورت) نے ہمیں مرا	متنا
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک مرد) مرا	متموہ	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) مرا	متہ
تم سب (مردوں) نے ان دونوں کو مرا	متموہما	تم (ایک عورت) نے ان دونوں کو مرا	متہما
تم سب (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو مرا	متموہم	تم (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو مرا	متہم
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک عورت) مرا	متموہا	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) مرا	متہا
تم سب (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو مرا	متموہن	تم (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو مرا	متہن

تم سب (عورتیں)	انتھم	میں	انتا
تم سب (عورتوں) نے مجھے مرا	متننی	میں نے تمہیں (ایک مرد) مرا	متک
تم سب (عورتوں) نے ہمیں مرا	متننا	میں نے تم دونوں کو مرا	متکا
تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک مرد) مرا	متنہ	میں نے تم سب (مردوں) کو مرا	متکر
تم سب (عورتوں) نے ان دونوں کو مرا	متنہما	میں نے تمہیں (ایک عورت) مرا	متک
تم سب (عورتوں) نے ان سب (مردوں) کو مرا	متنہم	میں نے تم سب (عورتوں) کو مرا	متکن
تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک عورت) مرا	متنہا	میں نے اسے (ایک مرد) مرا	متہ
تم سب (عورتوں) نے ان سب (عورتوں) کو مرا	متنہن	میں نے ان دونوں کو مرا	متہما
		میں نے ان سب (مردوں) کو مرا	متہم
		میں نے اسے (ایک عورت) مرا	متہا
		میں نے ان سب (عورتوں) کو مرا	متہن

نَحْنُ	ہم	
كَ	مُتَنَّاكَ	ہم نے تمہیں (ایک مرد) مرا
كُمَا	مُتَنَّاكُمَا	ہم نے تم دونوں کو مرا
كُمُ	مُتَنَّاكُمُ	ہم نے تم سب (مردوں) کو مرا
كِ	مُتَنَّاكِ	ہم نے تمہیں (ایک عورت) مرا
كِنَّ	مُتَنَّاكِنَّ	ہم نے تم سب (عورتوں) کو مرا
هُ	مُتَنَّاهُ	ہم نے اسے (ایک مرد) مرا
هُمَا	مُتَنَّاهُمَا	ہم نے ان دونوں کو مرا
هُمْ	مُتَنَّاهُمْ	ہم نے ان سب (مردوں) کو مرا
هَا	مُتَنَّاهَا	ہم نے اسے (ایک عورت) مرا
هِنَّ	مُتَنَّاهُنَّ	ہم نے ان سب (عورتوں) کو مرا

الجدول الإسنادي — المضارع

RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وہ (ایک مرد)
نِي	يُمُوتِي	وہ مجھے مرتا ہے
نَا	يُمُوتَانَا	وہ ہمیں مرتا ہے
كَ	يُمُوتُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) مرتا ہے
كُمَا	يُمُوتُكُمَا	وہ تم دونوں کو مرتا ہے
كُم	يُمُوتُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو مرتا ہے
كَ	يُمُوتُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) مرتا ہے
كُنَّ	يُمُوتُكُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو مرتا ہے
ه	يُمُوتُهُ	وہ اسے (ایک مرد) مرتا ہے
هُمَا	يُمُوتُهُمَا	وہ ان دونوں کو مرتا ہے
هُمْ	يُمُوتُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو مرتا ہے
هَا	يُمُوتُهَا	وہ اسے (ایک عورت) مرتا ہے
هُمَا	يُمُوتُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو مرتا ہے
هِنَّ	يُمُوتُهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو مرتا ہے

ہما (مذکر)		وہ (دو مرد)
نِي	يُمُوتَانِي	وہ دو مرد مجھے مرتے ہیں
نَا	يُمُوتَانَا	وہ دو مرد ہمیں مرتے ہیں
كَ	يُمُوتَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) مرتے ہیں
كُمَا	يُمُوتَاكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو مرتے ہیں
كُم	يُمُوتَاكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو مرتے ہیں
كَ	يُمُوتَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) مرتے ہیں
كُنَّ	يُمُوتَاكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو مرتے ہیں
ه	يُمُوتَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) مرتے ہیں
هُمَا	يُمُوتَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو مرتے ہیں
هُمْ	يُمُوتَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو مرتے ہیں
هَا	يُمُوتَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) مرتے ہیں
هِنَّ	يُمُوتَاهِنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو مرتے ہیں

ہم	وہ (سب مرد)
نِیْ	یَمُوتُونِیْ وہ سب مرد مجھے مرتے ہیں
نَا	یَمُوتُونَا وہ سب مرد ہمیں مرتے ہیں
کَ	یَمُوتُوكَ وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) مرتے ہیں
کَمَا	یَمُوتُوكَمَا وہ سب مرد تم دونوں کو مرتے ہیں
کُمْ	یَمُوتُوكُمْ وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو مرتے ہیں
کَ	یَمُوتُوكَ وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) مرتے ہیں
کُنَّ	یَمُوتُوكُنَّ وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو مرتے ہیں
ہِ	یَمُوتُوہِ وہ سب مرد اسے (ایک مرد) مرتے ہیں
ہُمَا	یَمُوتُوہُمَا وہ سب مرد ان دونوں کو مرتے ہیں
ہُمْ	یَمُوتُوہُمْ وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو مرتے ہیں
ہَا	یَمُوتُوہَا وہ سب مرد اسے (ایک عورت) مرتے ہیں
ہِنَّ	یَمُوتُوہِنَّ وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو مرتے ہیں

ہی	وہ (ایک عورت)
نِیْ	تَمُوتُونِیْ وہ ایک عورت مجھے مرتی ہے
نَا	تَمُوتُونَا وہ ایک عورت ہمیں مرتی ہے
کَ	تَمُوتُوكَ وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) مرتی ہے
کَمَا	تَمُوتُوكَمَا وہ ایک عورت تم دونوں کو مرتی ہے
کُمْ	تَمُوتُوكُمْ وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو مرتی ہے
کَ	تَمُوتُوكَ وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) مرتی ہے
کُنَّ	تَمُوتُوكُنَّ وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو مرتی ہے
ہِ	تَمُوتُوہِ وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) مرتی ہے
ہُمَا	تَمُوتُوہُمَا وہ ایک عورت ان دونوں کو مرتی ہے
ہُمْ	تَمُوتُوہُمْ وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو مرتی ہے
ہَا	تَمُوتُوہَا وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) مرتی ہے
ہِنَّ	تَمُوتُوہِنَّ وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو مرتی ہے

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تُموتَانِی	وہ دو عورتیں مجھے مرتی ہیں
نَا	تُموتَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں مرتی ہیں
ک	تُموتَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) مرتی ہیں
کَا	تُموتَاکَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو مرتی ہیں
کُر	تُموتَاکُر	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو مرتی ہیں
کِ	تُموتَاکِ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) مرتی ہیں
کُن	تُموتَاکُن	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو مرتی ہیں
ہ	تُموتَاهُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) مرتی ہیں
ہَا	تُموتَاهَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو مرتی ہیں
ہَم	تُموتَاهَم	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو مرتی ہیں
ہَا	تُموتَاهَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) مرتی ہیں
ہَن	تُموتَاهَن	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو مرتی ہیں

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	یْمْتِنِی	وہ سب عورتیں مجھے مرتی ہیں
نَا	یْمْتِنَا	وہ سب عورتیں ہمیں مرتی ہیں
ک	یْمْتِنَکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) مرتی ہیں
کَا	یْمْتِنَاکَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو مرتی ہیں
کُر	یْمْتِنَاکُر	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو مرتی ہیں
کِ	یْمْتِنَکِ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) مرتی ہیں
کُن	یْمْتِنَاکُن	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو مرتی ہیں
ہ	یْمْتِنَهُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) مرتی ہیں
ہَا	یْمْتِنَاهَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو مرتی ہیں
ہَم	یْمْتِنَاهَم	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو مرتی ہیں
ہَا	یْمْتِنَاهَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) مرتی ہیں
ہَن	یْمْتِنَاهَن	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو مرتی ہیں

تم (ایک مرد)	أنت	تم دونوں (مرد/عورت)	أنتما
تم (ایک مرد) مجھے مرتے ہو	نِي تَموتِي	تم دونوں مجھے مرتے ہو	نِي تَموتَانِي
تم (ایک مرد) ہمیں مرتے ہو	نَا تَموتَانَا	تم دونوں ہمیں مرتے ہو	نَا تَموتَانَا
تم (ایک مرد) اسے (ایک مرد) مرتے ہو	هُ تَموتَاهُ	تم دونوں اسے (ایک مرد) مرتے ہو	هُ تَموتَاهُ
تم (ایک مرد) ان دونوں کو مرتے ہو	هُمَا تَموتُهُمَا	تم دونوں ان دونوں کو مرتے ہو	هُمَا تَموتُهُمَا
تم (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو مرتے ہو	هُمْ تَموتُهُم	تم دونوں ان سب (مردوں) کو مرتے ہو	هُمْ تَموتُهُم
تم (ایک مرد) اسے (ایک عورت) مرتے ہو	هَا تَموتِهَا	تم دونوں اسے (ایک عورت) مرتے ہو	هَا تَموتِهَا
تم (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو مرتے ہو	هِنَّ تَموتِهِنَّ	تم دونوں ان سب (عورتوں) کو مرتے ہو	هِنَّ تَموتِهِنَّ

تم سب (مرد)	أنتم	تم (ایک عورت)	أنتِ
تم سب (مرد) مجھے مرتی ہو	نِي تَموتُونِي	تم (ایک عورت) مجھے مرتی ہو	نِي تَموتِينِي
تم سب (مرد) ہمیں مرتے ہو	نَا تَموتُونَا	تم (ایک عورت) ہمیں مرتی ہو	نَا تَموتِينَا
تم سب (مرد) اسے (ایک مرد) مرتے ہو	هُ تَموتُوهُ	تم (ایک عورت) اسے (ایک مرد) مرتی ہو	هُ تَموتِيهِ
تم سب (مرد) ان دونوں کو مرتے ہو	هُمَا تَموتُوهُمَا	تم (ایک عورت) ان دونوں کو مرتی ہو	هُمَا تَموتِيهِمَا
تم سب (مرد) ان سب (مردوں) کو مرتے ہو	هُمْ تَموتُوهُمْ	تم (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو مرتی ہو	هُمْ تَموتِيهِم
تم سب (مرد) اسے (ایک عورت) مرتے ہو	هَا تَموتُوهَا	تم (ایک عورت) اسے (ایک عورت) مرتی ہو	هَا تَموتِيهَا
تم سب (مرد) ان سب (عورتوں) کو مرتے ہو	هِنَّ تَموتُوهُنَّ	تم (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو مرتی ہو	هِنَّ تَموتِيهِنَّ

تم سب (عورتیں)	أنتن	میں	أنا
تم سب (عورتیں) مجھے مرتی ہو	نِي يَمْتَنِينِي	میں تمہیں (ایک مرد) مرتا/مرتی ہوں	أَموتُكَ
تم سب (عورتیں) ہمیں مرتی ہو	نَا يَمْتَنِينَا	میں تم دونوں کو مرتا/مرتی ہوں	أَموتُكُمَا
تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) مرتی ہو	هُ يَمْتَنِيهِ	میں تم سب (مردوں) کو مرتا/مرتی ہوں	أَموتُكُمْ
تم سب (عورتیں) ان دونوں کو مرتی ہو	هُمَا يَمْتَنِينَهُمَا	میں تمہیں (ایک عورت) مرتا/مرتی ہوں	أَموتُكِ
تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو مرتی ہو	هُمْ يَمْتَنِينُهُم	میں تم سب (عورتوں) کو مرتا/مرتی ہوں	أَموتُكُنَّ
تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) مرتی ہو	هَا يَمْتَنِيهَا	میں اسے (ایک مرد) مرتا/مرتی ہوں	أَموتُهُ
تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو مرتی ہو	هِنَّ يَمْتَنِينُهُنَّ	میں ان دونوں کو مرتا/مرتی ہوں	أَموتُهُمَا
		میں ان سب (مردوں) کو مرتا/مرتی ہوں	أَموتُهُم
		میں اسے (ایک عورت) مرتا/مرتی ہوں	أَموتِهَا
		میں ان سب (عورتوں) کو مرتا/مرتی ہوں	أَموتِهِنَّ

ہم	نَحْنُ	
ہم تمہیں (ایک مرد) مرتے ہیں	مُوتُكَ	كَ
ہم تم دونوں کو مرتے ہیں	مُوتُكُمَا	كُمَا
ہم تم سب (مردوں) کو مرتے ہیں	مُوتُكُمْ	كُمْ
ہم تمہیں (ایک عورت) مرتے ہیں	مُوتُكِ	كِ
ہم تم سب (عورتوں) کو مرتے ہیں	مُوتُكِنَّ	كِنَّ
ہم اسے (ایک مرد) مرتے ہیں	مُوتَهُ	هُ
ہم ان دونوں کو مرتے ہیں	مُوتُهُمَا	هُمَا
ہم ان سب (مردوں) کو مرتے ہیں	مُوتِهِمْ	هِمْ
ہم اسے (ایک عورت) مرتے ہیں	مُوتَهَا	هَا
ہم ان سب (عورتوں) کو مرتے ہیں	مُوتِهِنَّ	هِنَّ

USAGE EXAMPLES — PAST

مثالیں — ماضی

I

أَنَا مُتُّ عَنِ الدُّنْيَا حِينَ عَرَفْتُ حَقِيقَةَ الآخِرَةِ.
میں دنیا سے مر گیا جب مجھے آخرت کی حقیقت معلوم ہوئی۔

I died to the worldly life when I knew the reality of the Hereafter.

We

نَحْنُ مُتْنَا عَنِ الْغَفْلَةِ وَعِشْنَا بِذِكْرِ اللَّهِ.
ہم غفلت سے مر گئے اور اللہ کے ذکر سے جی اٹھے۔

We died from heedlessness and lived through the remembrance of Allah.

You (m)

أَنْتَ مُتٌّ عَنِ الشَّهَوَاتِ فَلَنْتَ رِضًا بِاللَّهِ.
تم خواہشات سے مر گئے تو اللہ کی رضا حاصل کی۔

You died to desires, so you attained the pleasure of Allah.

You (f)

أَنْتِ مُتٌّ عَنِ الْمَعَاصِي وَعِشْتِ لِلطَّاعَاتِ.
تم گناہوں سے مر گئیں اور عبادتوں کے لیے جیئیں۔

You died to sins and lived for acts of obedience.

He

هُوَ مَاتَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ صَابِرٌ.
وہ صابر رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔

He died as a martyr in the path of Allah while being patient.

She

هِيَ مَاتَتْ وَهِيَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي آخِرِ لِحَظَاتِهَا.
وہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آخری لمحات میں فوت ہوئی۔

She died while reciting the Quran in her last moments.

They two

هُمَا مَاتَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَحَسَنِ الْخَاتِمَةِ.
وہ دونوں اسلام اور حسن خاتمہ پر فوت ہوئے۔

They both died upon Islam and a good end.

They (m)

هُمْ مَاتُوا دِفَاعًا عَنِ أَرْضِهِمْ وَعِزِّهِمْ.
وہ اپنی زمین اور عزت کی حفاظت میں شہید ہوئے۔

They died defending their land and their honor.

You all (m)

أَتَمُّ مَتَمٍّ عَنِ الْآنَانِيَةِ وَعِشْتُمْ لِأَمْتِكُمْ.
تم خود غرضی سے مرگئے اور اپنی امت کے لیے جیے۔

You all died to selfishness and lived for your nation.

They (f)

هِنَّ مَاتْنَ وَهِنَّ صَائِمَاتٌ فِي يَوْمٍ حَارٍّ.
وہ ایک گرم دن میں روزے سے فوت ہوئیں۔

They died while fasting on a hot day.

USAGE EXAMPLES — PRESENT

مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَمُوتُ كُلَّ يَوْمٍ عَنِ الذُّنُوبِ وَأُؤَدُّ مِنْ جَدِيدٍ بِالتَّوْبَةِ.
میں ہر روز گناہوں سے مرتا ہوں اور توبہ سے نئے سرے سے سیدھا ہوتا ہوں۔

I die to sins every day and am reborn through repentance.

We

نَحْنُ نَمُوتُ حِينَ يَأْتِي أَجَلُنَا وَلَا يُؤَخَّرُ لِحَظَّةٍ.
جب ہماری اجل آنے لگی تو ہم میں گے اور ایک لمحہ بھی تاخیر نہ ہوگی۔

We die when our appointed time comes, and it is not delayed for a moment.

You (m)

أَنْتَ تَمُوتُ عَلَى مَا عَشْتِ عَلَيْهِ فَاسْتَعِدِّ.
تم اسی حال پر مرو گے جس پر زندگی گزارتی تھی تو تیار ہو۔

You die upon what you lived on, so prepare yourself.

You (f)

أَنْتِ تَمُوتِينَ عَنِ الدُّنْيَا كُلَّمَا قُبِتَ لِقِيَامِ اللَّيْلِ.
تم ہر بار دنیا سے مرتی ہو جب قیام اللیل کے لیے کھڑی ہوتی ہو۔

You die to the world every time you stand for the night prayer.

He

هُوَ يَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ الْكَرِيمِ.
اللہ کے کریم چہرے کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔

Everything dies except the noble Face of Allah.

She

هِيَ تَمُوتُ نَفْسَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فِي النَّوْمِ ثُمَّ يَبْعَثُهَا اللَّهُ.
اس کی جان ہر رات نیند میں مرتی ہے پھر اللہ اسے اٹھاتا ہے۔

Her soul dies every night in sleep, then Allah raises it.

They two

هُمَا يَمُوتَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمَا فَرِحَانِ.
وہ دونوں خوش ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں مرتے ہیں۔

They both die in the path of Allah while being happy.

They (m)

هُمُ يَمُوتُونَ عَلَى الْإِيمَانِ لِأَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَيْهِ.
وہ ایمان پر مرتے ہیں کیونکہ وہ اس پر ثابت قدم رہے۔

They die upon faith because they were steadfast upon it.

You all (m)

أَنْتُمْ تَمُوتُونَ كُلَّ يَوْمٍ بِالنَّوْمِ ثُمَّ تَبْعَثُونَ.
تم ہر روز نیند سے مرتے ہو پھر اٹھائے جاتے ہو۔

You all die every day through sleep and then are raised.

They (f)

هِنَّ يَمْتَنُّنَ وَهِنَّ مَتَمْسِكَاتٌ بِدِينِهِنَّ.
وہ اپنے دین سے جکڑی ہوئی مرتی ہیں۔

They die while holding firmly to their religion.

VOCABULARY

المفردات

الموت

موت

death

الميت

مردہ

dead person

الشهيد

شہید

martyr

الأَجَلُ

اجل / موت کا وقت

appointed time (of death)

حَسَنُ الخَاتِمَةِ

حسن خاتمہ

good ending

الآخِرَةُ

آخرت

Hereafter

الشَّهَوَاتُ

خواہشات

desires

الغَفْلَةُ

غفلت

heedlessness

التَّوْبَةُ

توبہ

repentance

قِيَامُ اللَّيْلِ

قیام اللیل

night prayer

الْأَنَانِيَّةُ

خود غرضی

selfishness

الْفَنَاءُ

فنا

annihilation / perishing

الْبَعْثُ

اٹھانا / بعث

resurrection

النَّوْمُ

نیند

sleep

الصَّبْرُ

صبر

patience